

Sheet No:

1 2 3 4 5 6

BISEP

BISE, Peshawar



***** اس لکیر کے اوپر کسی قسم کی لکھائی نہ کریں۔ *****

Examination / امتحان

Date (تاریخ)

Roll Number					
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0

Fill Subject	
<input type="radio"/>	English
<input type="radio"/>	Chemistry
<input type="radio"/>	Physics

Class	
<input checked="" type="radio"/>	9 th

انتباہ:

بورڈ کے قوانین کے مطابق اس صفحے کے علاوہ جوابی کاپی کے اندر اپنا نام، رول نمبر لکھنا یا کوئی شناختی علامت بنانا سخت ممنوع ہے اور قابل سزا ہے۔

رول نمبر صرف اس صفحے کے مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں۔

CAUTION: Do not write your name, roll number or any identification mark anywhere in Answer Booklet except at the allocated places as it is punishable under the board rules.

Roll number should be written at the allocated place only at this page.

Signature of
Superintendent

Please Sign in the Box

***** اس لکیر کے نیچے لکھائی منع ہے۔ *****

1 2 3 4 5 6

DO NOT WRITE ANYTHING HERE
SAMPLE

طالب علموں کے لئے ہدایات

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

ان ہدایات کو بغور پڑھنا اور ان پر عمل کرنا لازمی ہے۔

It is mandatory to read and follow the instructions given below:

Important Instructions:

1. Use only **Black Ballpen** to fill bubbles. **DO NOT** use Marker, Pencil or Ink pen for bubble filling.
2. Roll number should be written in the number form on the title page and correctly filled in bubbles.
3. There is **One(01)** page for each question in **Section B** and **Four(04)** pages for each question in **Section C**.
4. Give answer of each question at its **allocated** space.
5. Length of an answer must **NOT** exceed the area **allocated** for each question.
6. If you are not attempting any question **DO NOT** cross or write anything in the **allocated** space and leave the page blank.
7. No page should be torn-off from the Answer Booklet.
8. Answer Booklet must be returned to the invigilator.
9. In case of any **confusion/ambiguity** you may contact the invigilator.
10. While writing your answer **DO NOT** leave space between lines.

خصوصی ہدایات :

1. دائرے بھرنے کے لئے صرف کالے بال پین کا استعمال کریں۔ مارکر، پنسل یا انک پین کا پرگز استعمال نہ کریں۔
2. رول نمبر کو مختص کردہ جگہ پر اعداد کی صورت میں لکھیں اور اس سے منسلک دائرے بھریں۔
3. سیکشن (بی) کے ہر سوال کے جواب کے لئے ایک (۰۱) صفحہ مختص کیا گیا ہے اور سیکشن (سی) کے ہر سوال کے لئے چار (۰۴) صفحات مختص کئے گئے ہیں۔
4. ہر سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں۔
5. کسی بھی سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے۔
6. کوئی سوال نہ کرنے کی صورت میں مختص کی گئی جگہ کو خالی چھوڑ دیں اور کسی بھی قسم کا نشان یا کراس (X) نہ لگائیں۔
7. جوابی کاپی کا کوئی بھی صفحہ پھاڑنے کی ممانعت ہے۔
8. امتحان کے آخر میں جوابی کاپی کو نگران امتحان کے حوالے کر دیں۔
9. کسی بھی قسم کے ابہام کی صورت میں نگران امتحان سے رابطہ کریں۔
10. جواب لکھتے ہوئے لائن چھوڑ کر مت لکھیں۔

رول نمبر لکھنے کا صحیح طریقہ

Correct Way To Fill Roll Number

Roll Number					
2	0	7	4	1	9
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)
(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

رول نمبر لکھنے کا غلط طریقہ

Incorrect Way

Roll Number					
2	0	7	4	1	9
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)
(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

برائے مہربانی سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں۔
سوال نہ کرنے کی صورت میں صفحہ خالی چھوڑ دیں۔

SECTION - B

Question - 1

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

Please attempt the question at the **ALLOCATED** space only.
If you are not attempting this question, leave the page **BLANK**.

SECTION - B

Question - 2

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

برائے مہربانی سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں۔
سوال نہ کرنے کی صورت میں صفحہ خالی چھوڑ دیں۔

SECTION - B

Question - 3

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

Please attempt the question at the **ALLOCATED** space only.
If you are not attempting this question, leave the page **BLANK**.

SECTION - B

Question - 4

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

برائے مہربانی سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں۔
سوال نہ کرنے کی صورت میں صفحہ خالی چھوڑ دیں۔

SECTION - B

Question - 5

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

Please attempt the question at the **ALLOCATED** space only.
If you are not attempting this question, leave the page **BLANK**.

SECTION - B

Question - 6

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

برائے مہربانی سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں۔
سوال نہ کرنے کی صورت میں صفحہ خالی چھوڑ دیں۔

SECTION - B

Question - 7

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

Please attempt the question at the **ALLOCATED** space only.
If you are not attempting this question, leave the page **BLANK**.

SECTION - B

Question - 8

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

برائے مہربانی سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں۔
سوال نہ کرنے کی صورت میں صفحہ خالی چھوڑ دیں۔

SECTION - B

Question - 9

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

Please attempt the question at the **ALLOCATED** space only.
If you are not attempting this question, leave the page **BLANK**.

SECTION - B

Question - 10

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

برائے مہربانی سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں۔
سوال نہ کرنے کی صورت میں صفحہ خالی چھوڑ دیں۔

SECTION - B

Question - 11

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

Please attempt the question at the **ALLOCATED** space only.
If you are not attempting this question, leave the page **BLANK**.

SECTION - C

Start of Question - 12

Page 1 of 4

Part
#

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

SAMPLE

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

برائے مہربانی سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں۔
سوال نہ کرنے کی صورت میں صفحہ خالی چھوڑ دیں۔

SECTION - C

Question - 12

Page 2 of 4

Part
#

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

Please attempt the question at the **ALLOCATED** space only.
If you are not attempting this question, leave the page **BLANK**.

SECTION - C

Question - 12

Page 3 of 4

Part
#

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

برائے مہربانی سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں۔
سوال نہ کرنے کی صورت میں صفحہ خالی چھوڑ دیں۔

SECTION - C

Question - 12

Page 4 of 4

Part
#

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

Please attempt the question at the **ALLOCATED** space only.
If you are not attempting this question, leave the page **BLANK**.

SECTION - C

Start of Question - 13

Page 1 of 4

Part
#

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

SAMPLE

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

برائے مہربانی سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں۔
سوال نہ کرنے کی صورت میں صفحہ خالی چھوڑ دیں۔

SECTION - C

Question - 13

Page 2 of 4

Part
#

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

Please attempt the question at the **ALLOCATED** space only.
If you are not attempting this question, leave the page **BLANK**.

SECTION - C

Question - 13

Page 3 of 4

Part
#

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

برائے مہربانی سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں۔
سوال نہ کرنے کی صورت میں صفحہ خالی چھوڑ دیں۔

SECTION - C

Question - 13

Page 4 of 4

Part
#

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

Please attempt the question at the **ALLOCATED** space only.
If you are not attempting this question, leave the page **BLANK**.

SECTION - C

Start of Question - 14

Page 1 of 4

Part
#

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

SAMPLE

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

برائے مہربانی سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں۔
سوال نہ کرنے کی صورت میں صفحہ خالی چھوڑ دیں۔

SECTION - C

Question - 14

Page 2 of 4

Part
#

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

Please attempt the question at the **ALLOCATED** space only.
If you are not attempting this question, leave the page **BLANK**.

SECTION - C

Question - 14

Page 3 of 4

Part
#

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

SAMPLE

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

برائے مہربانی سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں۔
سوال نہ کرنے کی صورت میں صفحہ خالی چھوڑ دیں۔

SECTION - C

Question - 14

Page 4 of 4

Part
#

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

Please attempt the question at the **ALLOCATED** space only.
If you are not attempting this question, leave the page **BLANK**.

SECTION - C

Start of Question - 15

Page 1 of 4

Part
#

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

SAMPLE

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

برائے مہربانی سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں۔
سوال نہ کرنے کی صورت میں صفحہ خالی چھوڑ دیں۔

SECTION - C

Question - 15

Page 2 of 4

Part
#

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

Please attempt the question at the **ALLOCATED** space only.
If you are not attempting this question, leave the page **BLANK**.

SECTION - C

Question - 15

Page 3 of 4

Part
#

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW

برائے مہربانی سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں۔
سوال نہ کرنے کی صورت میں صفحہ خالی چھوڑ دیں۔

SECTION - C

Question - 15

Page 4 of 4

Part
#

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BEYOND

DO NOT WRITE IN THE SHADED AREA OR BELOW